

سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ

مکی سورۃ ہے اس کی چھ آیات ہیں

رکوع نمبر ۱

آیات ۱ تا ۶

عَمَّ ۳۰
۳۷

THE DISBELIEVERS

Revealed at Mecca

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1. Say : O disbelievers!
2. I worship not that which ye worship;
3. Nor worship ye that which I worship.
4. And I shall not worship that which ye worship.
5. Nor will ye worship that which I worship.
6. Unto you your religion, and unto me my religion.

○ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

○ رے پیغمبر! منکرانِ اسلام سے کہہ دو کہ لے کافر! ①

○ جن رتبوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا ②

○ اور جس (خدا) کی میں عبادت کرتا ہوں اسکی تم عبادت نہیں کرتے ③

○ اور میں پوجتا ہوں کہ جسکی تم پرستش کرتے ہو انکی میں پرستش نہیں کرتا ④

○ اور تم اسکی بندگی کرو گے اور میں اسکی بندگی کرتا ہوں ⑤

○ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر ⑥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ①

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ②

وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ③

وَلَا اَنَا عَابِدُ مَا عِبَدْتُمْ ④

وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ⑤

لَكُمْ دِیْنُکُمْ وَلِی دِیْنِ ⑥

اسرار و معارف

کفار سے فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ﷺ اور موحّد ہوں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا کہ کفار مکہ نے اس بات پہ سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ﷺ بتوں کو بڑا نہ کہیں تو ارشاد ہوا کہ باطل کو باطل نہ کہنا تو گویا اسے قبول کرنا ہے لہذا من کفر کو قبول نہیں کر سکتا وہ بہر حال غلط کو غلط ہی کہے گا اور تم جب تک کافر ہو اور اپنے عقیدے اور عمل سے تائب نہیں ہوتے میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے کہ اسلام سمجھوتے کا نام نہیں کہ کچھ کفر قبول کر لیا جائے اور کچھ باتیں اسلام کی ہوں بلکہ کفر کو مٹا کر اسلام نافذ ہوتا ہے لہذا ایسے سمجھوتے کی آئندہ بھی کوئی امید نہ رکھو میرے لیے میرا دین ہے جس کا انجام کامیابی و کامرانی ہے اور تم اگر توبہ نہیں کرتے تو دیکھ لو گے جو تمہارے دین کا انجام ہے۔